

5	וַיָּבֹאוּ	מִהֶם	אֲנָשִׁי	הָעִי	כְּשָׁלָשִׁים	וַיִּשָּׂא	אִישׁ	וַיִּרְדְּפוּם	לִפְנֵי
	اور-مارے	اُن-میں-سے	آدمیوں-نے	عائی-کے	تیس-کے-قریب	اور-چھٹیس	آدمی	اور-پیچھا-کیا-انہیں	سامنے-سے
	H5221	H1992	H0376	H5857	H7970	H8337	H0376	H7291	H6440

	הַשְּׂעָרָה	עַד-	הַשְּׂבָרִים	וַיָּקוּמוּ	בְּמִזְרָה	וַיִּמָּס	לְבַב-	הָעַם	וַיְהִי
	دروازے-کے	تک-	شباریم	اور-مارا-انہیں	اترائی-میں	اور-پگھل-گیا	دل-	لوگوں-کا	اور-ہو-گیا
	H8179	H5704	H7671	H5221	H4174	H4549	H3824		H1961

لְמִים:

پانی-کی-طرح
[H4325](#)

اسرائیلی تب ڈالا۔ مار اُنہیں پر ڈھلان کی وہاں کے کر تعاقب کا اُن تک شبریم کر لے سے دروازے کے شہر نے آدمیوں کے عی ہوئے۔ شہید افراد 36 کے اُن اور گئی۔ دے جواب ہمت کی اُن اور گئے، گھبرا سخت

6	וַיִּקְרַע	יְהוֹשֻׁעַ	שָׁמְלוֹתָיו	וַיַּפֵּל	עַל-	פָּנָיו	אֶרְצָה	לִפְנֵי	אֲרוֹן	יְהוָה	עַד-
	اور-بھاڑے	یشوع-نے	کپڑے-اپنے	اور-گرا	پر-	چہرے-اپنے	زمین-پر	سامنے	صندوق	بہوواہ-کے	تک-
	H7167	H3091	H8071	H5307		H6440	H0776	H6440	H0727	H3068	H5704

	הַעֲרָב	הוּא	וַיִּזְכְּנוּ	יִשְׂרָאֵל	וַיַּעֲלוּ	עָפָר	עַל-	רַאשָׁם:
	شام	وہ	اور-بزرگ	اسرائیل-کے	اور-ذالیں	خاک	پر-	سروں-اپنے
	H6153	H1931	H2205	H3478	H5927	H6083		

نے بزرگوں کے اسرائیل رہا۔ پڑا تک شام وہ وہاں گیا۔ گر بل کے منہ سامنے کے صندوق کے رب اور دیا پھاڑ کو کپڑوں اپنے کے کر اظہار کا رنجش نے یشوع لی۔ ڈال خاک پر سر اپنے اور کیا بی ایسا بھی

7	וַיֹּאמֶר	יְהוֹשֻׁעַ	וְאַתָּה	אֲדֹנָי	יְהוָה	לָמָּה	הַעֲבַרְתָּ	הַעֲבִיר	אֶת-	הַזֶּה	אֶת-
	اور-کہا	یشوع-نے	افسوس	اے-خداوند	بہوواہ	کیوں	گزارا-ٹو-نے	گزارنا	کو-	لوگوں	اِن-کو
	H0559	H3091	H0162	H0136	H3069	H4100			H0853	H2088	H0853

	הִירְדֵן	לָתֵת	אֶתְנוּ	בְּיַד	הָאֲמֹרִי	וְלֹ	לְהַאֲבִידֵנוּ	וְלֹ	הוֹאֲלֵנוּ	וַיִּשָּׁב
	یردن-کے	دینے-کے-لیے	ہمیں	ہاتھ-میں	اموریوں-کے	بلاک-کرنے-کے-لیے-ہمیں	اور-کاش	راضی-ہوتے-ہم	اور-بیٹھتے	
	H3383	H5414	H0853	H3027	H0567	H0006	H3863	H2974	H3427	

בְּעֶפְרַיִם
ہیردن-کے
[H3383](#)
[H5676](#)

حوالے کے اموریوں ہمیں کہ تھا یہ صرف مقصد تیرا اگر دیا کیوں گزرنے سے میں یردن دریائے کو قوم اِس نے ٹو مطلق! قادر رب اے ہائے، نے یشوع ہوتے! تیار لئے کے ربنے پر کنارے مشرقی کے دریا ہم کاش کرے؟ بلاک کے کر

8	כִּי	אֲדֹנָי	מָה	אָמַר	אֲחֵרִי	אַשֶׁר	הַפֶּדָה	יִשְׂרָאֵל	עָרַף	לִפְנֵי	אֲבִיבִי:
	التجا	اے-خداوند	کیا	کہوں	بعد-اُس-کے	جب	موڑ-دی	اسرائیل-نے	پیٹھ	سامنے-سے	دشمنوں-اپنے
	H0994	H0136	H4100	H0559			H2015	H3478	H6203	H6440	H0341

ہے؟ آیا بھاگ سے سامنے کے دشمنوں اپنے اسرائیل جب کہوں کیا میں اب رب، اے

9	וַיִּשְׁמְעוּ	הַכְּנַעֲנִי	وְכָל	יִשְׂבֵי	הָאָרֶץ	וַיִּסְבּוּ	עַלֵינוּ	וַהֲכִרְתוּ	אֶת-
	اور-سنیں-گے	کنعانی	اور-سب	باشندے	زمین-کے	اور-گھیر-لیں-گے	ہمیں	اور-کاٹ-ذالیں-گے	کو-
	H8085		H3605	H3427	H0776	H5437		H3772	H0853

	שָׁמְנוּ	מִן-	הָאָרֶץ	וּמִה-	תַּעֲשֶׂה	לְשֹׁמְרָה	הַנְּדוּל:	ס
	نام-ہمارے	سے-	زمین	اور-کیا-	کرے-گا	نام-تیرے-کے-لیے	بڑے	—
	H8034		H0776	H4100		H8034		

کے رکھنے قائم نام عظیم اپنا خود ٹو پھر تو گا ہو ایسا اگر گی۔ دیں مٹا نشان و نام ہمارا اور گی لیں گھیر ہمیں کر سن یہ قومیں باقی کی ملک اور کنعانی گا؟ کرے کیا لئے

10	וַיֹּאמֶר	יְהוָה	אֵל-	יְהוֹשֻׁעַ	קָם	לָךְ	לָמָּה	זֶה	אֵתָהּ	נָפַל	עַל-	פָּנָיִךְ:
	اور-کہا	یہوواہ-نے	سے-	یشوع	اُٹھ	تُو	کیوں	یہ	تُو	گرا-ہوا-ہے	پر-	چہرے-اپنے
	H0559	H3068	H0413	H3091		H4100	H2088			H5307		H6440

بے؟ پڑا بل کے منہ کیوں تُو جا! ہو کھڑا کر [] اُٹھ کہا، سے یشوع نے رب میں جواب

11	חָטָא	יִשְׂרָאֵל	וְגַם	עֲבַדְוּ	אֶת-	בְּרִיתִי	אֲשֶׁר	צִוִּיתִי	אֹתְכֶם	וְגַם	לְקַחְוּ
	گناہ-کیا-ہے	اسرائیل-نے	اور-بھی	توڑا-ہے	کو-	عہد-میرے	جو	حکم-دیا-میں-نے	اُنہیں	اور-بھی	لیا
	H2398	H3478	H1571	H0853		H1285		H6680	H0853	H1571	H3947

مَنْ-	הַחֹרֵם	וְגַם	גִּבְבוּ	וְגַם	כְּחֹשׁוּ	וְגַם	שָׁמוּ	בְּכַלֵּיהֶם:
سے-	حرام	اور-بھی	چرایا	اور-بھی	جھوٹ-بولا	اور-بھی	رکھا	سامان-اپنے-میں
	H1571	H1589	H1571	H3584	H1571		H3627	

لے کچھ سے میں چیزوں شدہ مخصوص نے اُنہوں تھا۔ باندھا ساتھ کے اُن نے میں جو بے کی ورزی خلاف کی عہد میرے نے اُنہوں ہے۔ کیا گناہ نے اسرائیل ہے۔ لیا ملا میں سامان اپنے سے چپکے کے کر چوری اور ہے، لیا

12	וְלֹא	יִכְלֹו	בְּנֵי	יִשְׂרָאֵל	לְקוֹמָם	לְפָנָי	אֹיְבֵיהֶם	עָרַף	יַפְנוּ	לְפָנָי
	اور-نہیں	کر-سکے-گے	بیٹے	اسرائیل-کے	کھڑے-ہونا	سامنے-سے	دشمنوں-اپنے	پیٹھ	موزیں-گے	سامنے-سے
	H3808	H3201		H3478	H6440	H6440	H0341	H6203	H6437	H6440

אֹיְבֵיהֶם	כִּי	הָיוּ	לְחֹרֵם	לֹא	אֹסִירָהּ	לְהַזְנוֹת	עִמָּכֶם	אִם-	לֹא
دشمنوں-اپنے	کیونکہ	ہو-گئے-ہیں	حرام	نہیں	جاری-رکھوں-گا	ہونا	تمہارے-ساتھ	اگر-	نہیں
H0341		H1961		H3808	H3254	H1961			H3808

תִּשְׁמְדוּ	הַחֹרֵם	מִקִּרְבְּכֶם:
نابود-کرو-گے	حرام-کو	درمیان-تمہارے-سے
H8045		H7130

بلاکت بھی کو آپ اپنے نے اسرائیل سے حرکت اس کیونکہ ہیں۔ رہے بھاگ کر پھیر پیٹھ بلکہ سکتے رہ نہیں قائم سامنے کے دشمنوں اپنے اسرائیلی لئے اسی نہیں ساتھ تمہارے میں تک وقت اُس بے مخصوص لئے کے تباہی جو لو کر نہ تباہ کر نکال کچھ وہ سے درمیان اپنے تم تک جب ہے۔ لیا کر مخصوص لئے کے گا۔ ہوں

13	קָם	קָדַשׁ	אֶת-	הָעָם	וְאָמַרְתָּ	הַתְּקַדְּשׁוּ	לְמַחֲרָה	כִּי	כֹה	אָמַר	יְהוָה	אֱלֹהֵי
	اُٹھ	پاک-کر	کو-	لوگوں	اور-کہنا	پاک-کرو	کل-کے-لیے	کیونکہ	یوں	فرماتا-ہے	یہوواہ	خدا
		H6942	H0853		H0559	H6942	H4279		H3541	H0559	H3068	H0430

יִשְׂרָאֵל	חֹרֵם	בְּקִרְבְּךָ	יִשְׂרָאֵל	לֹא	תֹכַל	לְקוֹמָם	לְפָנָי	אֹיְבֵיךָ	עַד-
اسرائیل-کے	حرام	درمیان-تیرے	اے-اسرائیل	نہیں	کر-سکتا-ہے	کھڑے-ہونا	سامنے-سے	دشمنوں-اپنے	تک-
H3478		H7130	H3478	H3808	H3201	H6440	H6440	H0341	H5704

הִסִּירְכֶם	הַחֹרֵם	מִקִּרְבְּכֶם:
ہٹائے-تمہارے	حرام-کو	درمیان-تمہارے-سے
H5493		H7130

بے خدا کا اسرائیل جو رب کیونکہ کرنا، مُقَدَّس و مخصوص لئے کے کل کو آپ [] اپنے دینا، بتا اُنہیں کر۔ مُقَدَّس و مخصوص لئے میرے کو لوگوں اور اُٹھ اب قائم سامنے کے دشمنوں اپنے دو نہ نکال سے درمیان اپنے اُسے تم تک جب ہے۔ مخصوص لئے میرے جو بے مال ایسا درمیان تیرے اسرائیل، اے کہ بے فرماتا ہے۔ [] سکو رہ نہیں

14 **וּנְקֻרְבָתָם** **בְּבֹקֶר** **לְשִׁבְטֵיכֶם** **וְהָיָה** **הַשִּׁבְטֹ** **אֲשֶׁר-** **יִלְכְּדוּ** **יְהוָה** **יִקְרַב**
 اور-اؤ-گے **صبح-کو** **قبیلوں-اپنے-کے-موافق** **اور-ہوگا** **قبیلہ-وہ** **جسے-** **پکڑے-گا** **یہوواہ** **قرب-آئے**
 H7126 H1242 H7626 H1961 H7626 H3920 H3068 H7126

لְמִשְׁפַּחֹת **וְהַמִּשְׁפָּחָה** **אֲשֶׁר-** **יִלְכְּדָהָ** **יְהוָה** **תִּקְרַב** **לְבָתִּים** **וְהַבַּיִת** **אֲשֶׁר**
 خاندانوں-کے **اور-خاندان-وہ** **جسے-** **پکڑے-گا-آسے** **یہوواہ** **قرب-آئے** **گھرانوں-کے** **اور-گھرانہ-وہ** **جسے**
 H4940 H4940 H3920 H3068 H7126 H7126

יִלְכְּדוּ **יְהוָה** **יִקְרַב** **לְדַבְרִים:**
پکڑے-گا-آسے **یہوواہ** **قرب-آئے** **مردوں-کے**
 H3920 H3068 H7126 H1397

آئیں۔ سامنے باری باری کنبے کے قبیلے اُس پھر ہے۔ کا قبیلے سے کون شخص قصوروار کہ گا کرے ظاہر رب کرے۔ پیش کو آپ اپنے قبیلہ ایک ہر کو صبح کل آئیں۔ سامنے افراد مختلف کے اُس گا ٹھہرائے قصوروار رب کو خاندان جس اور آئیں۔ سامنے خاندان مختلف کے اُس گا ٹھہرائے قصوروار رب کو کنبے جس

15 **וְהָיָה** **הַנְּלָכָד** **בְּחֶרֶם** **יִשְׂרָאֵל** **בְּאֵשׁ** **אָתוּ** **וְאֵת-** **כָּל-** **אֲשֶׁר-** **לֹ** **כִי**
 اور-ہوگا **پکڑا-ہوا-وہ** **حرام-میں** **جلایا-جائے-گا** **آگ-سے** **آسے** **اور-کو-** **سب-** **جو-** **آس-کا** **کیونکہ**
 H1961 H3920 H8313 H0784 H0853 H0853 H3605

עָבַר **אֵת-** **בְּרִית** **יְהוָה** **וְכִי-** **עָשָׂה** **נִבְלָה** **בְּיִשְׂרָאֵל:**
توڑا-آس-نے **کو-** **عہد** **یہوواہ-کے** **اور-کیونکہ-** **کیا** **شرمنگاہی** **اسرائیل-میں**
 H0853 H1285 H3068 H5039 H3478

اسرائیل کے کر ورزی خلاف کی عہد کے رب نے اُس کیونکہ ہے، دینا جلا سمیت ملکیت کی اُس آسے گا جائے پکڑا ساتھ کے مال مخصوص لئے کے رب جو ہے۔ کیا کام ناک شرم میں

16 **וַיִּשְׁקֶם** **יְהוֹשֻׁעַ** **בְּבֹקֶר** **וַיִּקְרַב** **אֶת-** **יִשְׂרָאֵל** **לְשִׁבְטָיו** **וַיִּלְכְּד**
 اور-اُٹھا-صبح-سویرے **یشوع** **صبح-کو** **اور-قرب-لایا** **کو-** **اسرائیل-کو** **قبیلوں-اپنے-کے-موافق** **اور-پکڑا-گیا**
 H7925 H3091 H1242 H7126 H0853 H3478 H7626 H3920

שָׁבַט **יְהוּדָה:**
قبیلہ **یہوداہ-کا**
 H3063 H7626

ٹھہرایا۔ قصوروار اُسے نے رب تو اُئی باری کی قبیلے کے یہوداہ جب دیا۔ آئے پاس اپنے باری باری کو قبیلوں نے یشوع سویرے صبح دن اگلے

17 **וַיִּקְרַב** **אֶת-** **מִשְׁפַּחַת** **יְהוּדָה** **וַיִּלְכְּד** **אֶת** **מִשְׁפַּחַת** **הַזְּרָחִי** **וַיִּקְרַב** **אֶת-**
 اور-قرب-لایا **کو-** **خاندان** **یہوداہ-کے** **اور-پکڑا** **کو** **خاندان** **زرچی-کا** **اور-قرب-لایا** **کو-**
 H7126 H0853 H4940 H3063 H3920 H0853 H2227 H7126 H0853

מִשְׁפַּחַת **הַזְּרָחִי** **לְנַבְרִים** **וַיִּלְכְּד** **זְבִדִי:**
خاندان **زرچی-کے** **مردوں-کے** **اور-پکڑا-گیا** **زیدی**
 H4940 H2227 H1397 H3920 H2067

خاندان کا زیدی نے رب تو آئے سامنے خاندان مختلف کے زارح جب ٹھہرایا۔ قصوروار کو کنبے کے زارح نے رب تو آئے سامنے کنبے مختلف کے قبیلے اُس جب ٹھہرایا۔ قصوروار

18 **וַיִּקְרַב** **אֶת-** **בֵּיתוֹ** **לְדַבְרִים** **וַיִּלְכְּד** **עֶקֶן** **בֶּן-** **כְּרִמִי** **בֶּן-** **זְבִדִי**
 اور-قرب-لایا **کو-** **گھرانے-آس-کے** **مردوں-کے** **اور-پکڑا-گیا** **عکن** **بیٹے-** **کریمی-کے** **بیٹے-** **زیدی-کے**
 H7126 H0853 H1397 H3920 H5912 H3756 H2067

בֶּן- **זְרַח** **לְמֹטָה** **יְהוּדָה:**
بیٹے- **زرح-کے** **قبیلے-سے** **یہوداہ-کے**
 H2226 H4294 H3063

گیا۔ پکڑا زارح بن زیدی بن کریمی بن عکن اور دیا، آئے پاس اپنے فرداً فرداً کو خاندان اُس نے یشوع آخر کار

19	וַיֹּאמֶר	יְהוֹשֻׁעַ	אֶל-	עַכְשָׁן	בְּנֵי	שִׁים-	נָא	כְּבוֹד	לְיְהוָה	אֱלֹהֵי	יִשְׂרָאֵל
	اور-کہا	یشوع-نے	سے-	عکن	اے-بیٹے-میرے	دے-	مہربانی	عزت	یہوواہ-کو	خدا	اسرائیل-کے
	H0559	H3091	H0413	H5912		H4994	H3519	H3068	H0430	H3478	
	וְתוֹךְ-	לֹא	תּוֹרָה	וְהִגֵּד-	נָא	מִה	עֲשִׂיתָ	אֶל-	תִּכְחָד	מִמֶּנִּי:	
	اور-دے-	اُسے	اقرار	اور-بتا-	مہربانی	مجھے	کیا	نہ-	چھپا	مجھ-سے	
	H5414	H8426	H5046	H4994	H4100	H0408	H3582				

مت سے مجھ بات بھی کوئی کیا۔ کیا نے تم کہ دو بتا مجھے کرو۔ ستائش کی اُس اور دو جلال کو خدا کے اسرائیل رب ۱۱ بیٹا، کہا، سے اُس نے یشوع چھپانا۔ ۱۱

20	וַיֵּעַן	עַכְשָׁן	אֶת-	יְהוֹשֻׁעַ	וַיֹּאמֶר	אֲמֹנָה	אֲנֹכִי	חָטְאתִי	לְיְהוָה	אֱלֹהֵי
	اور-جواب-دیا	عکن-نے	کو-	یشوع	اور-کہا	بے شک	میں	گناہ-کیا-ہے-میں-نے	یہوواہ-کے-خلاف	خدا
	H5912	H0853	H3091	H0559	H0546	H0595	H2398	H3068	H0430	
	יִשְׂרָאֵל	וּכְזֹאת	וּכְזֹאת	עֲשִׂיתִי:						
	اسرائیل-کے	اور-ایسا	اور-ایسا	کیا-میں-نے						
	H3478	H2063	H2063	H2063						

۱۱ ہے۔ کیا گناہ کا خدا کے اسرائیل رب نے میں ۱۱ واقعی دیا، جواب نے عکن

21	וְאֶרְאֶה	(וְאֶרְאֶה)	בְּשַׁלָּל	אֲדַרְתָּ	שְׂנֵעָרָ	אֶחֶת	שׂוֹכָה	וּמֵאֲתָיִם	שְׂקָלִים
	اور-دیکھا-میں-نے	اور-دیکھا-میں-نے	لوٹ-میں	چوغہ	شنعار-کا	ایک	اچھا	اور-دو-سو	مثقال
	H7200	H7200	H7998	H0155	H8152	H0259	H3967	H8255	
	זָכָר	וּלְשׁוֹן	זָהָב	אֶחָד	חֲמִשִּׁים	שְׂקָלִים	מִשְׁקָלוֹ	וְאֶחָדָם	
	چاندی-کے	اور-زبان	سونے-کی	ایک	پچاس	مثقال	وزن-اُس-کا	اور-لالج-کی-اُن-کی-میں-نے	
	H3701	H3956	H2091	H0259	H2572	H8255	H4948		
	וְאֶקְחֵם	וְהֵנָּם	טְמוּנִים	בְּאֶרֶץ	בְּתוֹךְ	הָאֶהָלָה	וְהִכְסֵף	תַּחְתֵּיהָ:	
	اور-لے-لیا-میں-نے	اور-دیکھو-وہ	چھپے-ہوئے	زمین-میں	بیچ-میں	خیمے-میرے	اور-چاندی	نیچے-اُس-کے	
	H3947	H2009	H2934	H0776	H8432	H0168	H3701	H8478	

چیزیں یہ تھی۔ لی لے اینٹ کی سونے زائد سے گرام کلو آدھے اور چاندی گرام کلو دو سوا تقریباً چوغہ، شاندار ایک کا بابل سے میں مال ہوئے اُوٹے نے میں دیا۔ ۱۱ چھپا نیچے کے چیزوں باقی نے میں کو چاندی ہیں۔ ہوئی دبی میں زمین کی خیمے میرے وہ اب لیا۔ لے انہیں اور کیا لالج کا اُن نے میں کر دیکھ

22	וַיִּשְׁלַח	יְהוֹשֻׁעַ	מִלֵּאזְכִּים	וַיִּרְצוּ	הָאֶהָלָה	וְהֵנָּה	טְמוּנָה	בְּאֶהָלָו	וְהִכְסֵף
	اور-بھیجا	یشوع-نے	قاصد	اور-دوڑے	خیمے-کو	اور-دیکھو	چھپا-ہوا	خیمے-اُس-کے-میں	اور-چاندی
	H7971	H3091	H4397	H7323	H0168	H2009	H2934	H0168	H3701
	תַּחְתֵּיהָ:								
	نیچے-اُس-کے								
	H8478								

۱۱ ہے ہوا چھپایا میں زمین کی خیمے واقعی مال یہ کہ دیکھا تو پہنچے وہاں کر دوڑ وہ دیا۔ بھیج پاس کے خیمے کے عکن کو بندوں اپنے نے یشوع کر سن یہ ہے۔ پڑی نیچے کے چیزوں دوسری چاندی کہ اور

23	וַיִּקְחוּם	מִתּוֹךְ	הָאֶהָלָה	וַיִּבְאוּם	אֶל-	יְהוֹשֻׁעַ	וְאֵל	כָּל-	בְּנֵי	יִשְׂרָאֵל
	اور-لے-لیا-انہیں	بیچ-سے	خیمے-کے	اور-لائے-انہیں	پاس-	یشوع-کے	اور-پاس	سب-	بیٹوں	اسرائیل-کے
	H3947	H8432	H0168	H0935	H0413	H3091	H0413	H3605	H3478	
	וַיִּצְקֵם	לְפָנָי	יְהוָה:							
	اور-ڈھیر-لگایا-انہیں	سامنے	یہوواہ-کے							
	H3332	H6440	H3068							

۱۱ دیا۔ رکھ سامنے کے رب اور آئے لے پاس کے اسرائیلیوں تمام اور یشوع کر نکال سے خیمے کچھ سب یہ وہ

וַיִּקַּח	וַיְהוֹשֻׁעַ	אֶת-	עֲכָן	בֶּן-	זָרַח	וְאֶת-	הַכֹּהֵן	וְאֶת-	הָאֲדָרֶת	וְאֶת-	לְשׁוֹן
اور-لیا	یشوع-نے	کو-	عکن	بیٹے-	زرح-کے	اور-کو-	چاندی	اور-کو-	چوغہ	اور-کو-	زبان
H3947	H3091	H0853	H5912	H2226	H0853	H3701	H0853	H0155	H0853	H3956	
הַזָּהָב	וְאֶת-	בָּזָיו	וְאֶת-	בְּנֵי	וְאֶת-	שׁוֹרָ	וְאֶת-	חֲמָרָיו	וְאֶת-	וְאֶת-	
اور-کو	بیٹوں-اُس-کے	اور-کو	اور-کو	بیٹیوں-اُس-کی	اور-کو	بیل-اُس-کے	اور-کو	گدھے-اُس-کے	اور-کو	اور-کو	
H2091	H0853	H0853	H0853	H1323	H0853	H7794	H0853	H2543	H0853		
צִאֲנוּ	וְאֶת-	אֶחָדָיו	וְאֶת-	כָּל-	אֲשֶׁר-	לָו	וְכָל-	יִשְׂרָאֵל	עִמּוֹ		
بھیڑوں-اُس-کی	اور-کو	خیمے-اُس-کے	اور-کو	سب-	جو-	اُس-کا	اور-سب-	اسرائیل	ساتھ-اُس-کے		
H6629	H0853	H0168	H0853	H3605	H0853	H3605	H3605	H3478			
וַיַּעֲלוּ	אֹתָם	עִמָּם	עֲכוֹר:								
اور-لے-گئے	انہیں	وادی	عکور-کی								
H5927	H0853	H6010	H5911								

گائے بیلوں، بیٹیوں، بیٹے کے عکن اینٹ، کی سونے لباس، چاندی، نے انہوں گئے۔ لے میں عکور وادی کر پکڑ کو زراح بن عکن اسرائیلی تمام اور یشوع پھر دیا۔ پہنچا میں وادی اُس کو ملکیت پوری کی اُس غرض خیمے کے اُس اور بھیڑیکریوں گدھوں،

וַיֵּאמֶר	יְהוֹשֻׁעַ	מָה	עֲכָרְתָּנוּ	וְהָיָה	בַּיּוֹם	הַזֶּה
اور-کہا	یشوع-نے	کیوں	مصیبت-میں-ڈالا-ٹو-نے-ہمیں	مصیبت-میں-ڈالے-گا-تجھے	یہوواہ	دن-میں
H0559	H3091	H4100	H5916	H5916	H3117	H2088
וַיִּרְגְּמוּ	אֹתוֹ	כָּל-	יִשְׂרָאֵל	אֶבְנֵי	וַיִּשְׂרְפוּ	אֹתָם
اور-سنگسار-کیا	اُسے	سب-	اسرائیل-نے	پتھر	اور-جلایا	انہیں
H7275	H0853	H3605	H3478	H0068	H8313	H0853
וַיִּסְקְלוּ	אֹתָם	בְּאֲבָנִים:				
اور-سنگسار-کیا	انہیں	پتھروں-سے				
H5619	H0853	H0068				

جلا کے کر سنگسار سمیت والوں گھر کے اُس کو عکن نے اسرائیل پورے پھر گا۔ لائے آفت بی پر تم رب آج ہو؟ لائے کیوں پر ہم آفت یہ تم کہا، نے یشوع دیا۔

וַיִּקְיִמוּ	עָלָיו	נָל-	אֲבָנִים	נְדוּל	עַד	הַיּוֹם	הַזֶּה	וַיִּשְׁב	יְהוָה	מִחֲרֹן
اور-کھڑا-کیا	اُس-پر	ڈھیر-	پتھروں-کا	بڑا	تک	دن	اس-کے	اور-پھرا	یہوواہ	شدت-سے
H0639	H1530	H0068	H5704	H3117	H2088	H7725	H3068	H2740		
אָפוּ	עַל-	כֶּן	קָרָא	נָשָׁם	הַמְּקוֹם	הַהוּא	עִמָּם	עָכוֹר	עַד	הַיּוֹם:
غضب-اپنے	پر-	کے	رکھا-گیا	نام	مقام-کا	اُس	وادی	عکور	تک	دن
H0639			H7121	H8034	H4725	H1931	H6010	H5911	H5704	H3117

اس ہے۔ ربا وادی کی آفت یعنی عکور وادی نام کا اُس تک آج کہ ہے وجہ یہی ہے۔ موجود وہاں تک آج جو دیا لگا ڈھیر بڑا کا پتھروں نے انہوں اوپر کے عکن گیا۔ بو ٹھنڈا غضب سخت کا رب بعد کے